

## فوری حقائق اندراج کے دورانیے



### آپ کو NY State of Health کے ذریعے کیوں صحت کے پلان میں درج ہونا چاہیے؟

صحت کی انشورنس اور NY State of Health میں درج ہونے کی بہت سے وجوہات ہیں جو خریدنے میں اور مسابقتی، کم خرچے والی کوریج میں درج ہونے کو آسان بناتی ہیں۔ منتخب کرنے کے لیے بہت سے صحت کے پلانز ہیں۔ آپ تربیت یافتہ معاونت کار سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور، آپ مفت کوریج یا کوریج کی ادائیگی میں مدد کے اہل ہو سکتے ہیں۔

سال کا وہ وقت جب آپ صحت کے پلان میں درج ہو سکتے ہیں وہ اس چیز پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کونسے صحت کے پلان کے اہل ہیں۔

### NY State of Health کس قسم کے منصوبے پیش کرتی ہے؟

NY State of Health ایسی جگہ ہے جو کہ Medicaid، Child Health Plus، ضروری پلان، اور کوالیفائیڈ صحت کے منصوبے خریدنے اور ان میں درج ہونے کے لیے ہے۔

### میں کب درج ہو سکتا/سکتی ہوں؟

آپ کب درج ہو سکتے ہیں یہ اس چیز پر منحصر ہے کہ آپ کس پروگرام کے اہل ہیں، جو کہ عمر، آمدن اور دیگر عوامل پر منحصر ہے۔ اگر آپ مندرجہ ذیل کے لیے اہل ہیں تو اندراج سارا سال کھلا ہے:

• Medicaid

• Child Health Plus

• ضروری پلان

اگر آپ اہل ہیں تو آپ اندراج کروا سکتے ہیں، کوالیفائیڈ صحت کے منصوبے، دوران سالانہ اوپن مدت اندراج میں یا خصوصی اندراج کے زمانے میں۔

امریکی بھارتی اور الاسکا کے سال بھر کسی بھی وقت NY State of Health کے کسی بھی پروگرام میں درج ہو سکتے ہیں۔

### اوپن اندراج کی مدت کیا ہے؟

اوپن اندراج کی مدت سال کا محدود دورانیہ ہے – عموماً نومبر سے جنوری – جب آپ ت کوالیفائیڈ صحت کی منصوبہ بندی میں درج ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان مہینوں کے دوران درج نہیں ہوتے، تو آپ کو اگلے اوپن اندراج کی مدت کے آنے کا انتظار کرنا ہو گا۔ یہاں کچھ استثنائت بھی ہیں۔ اگر آپ خصوصی اندراج کی مدت کے لیے اہل ہیں تو اوپن اندراج کی مدت کے علاوہ بھی آپ کوالیفائیڈ صحت کی منصوبہ بندی میں درج ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں۔

آن لائن  
nystateofhealth.ny.gov

ذریعہ فون  
1-855-355-5777

TTY  
1-800-662-1220

معاونت کار سے ذاتی طور پر ملیں

نیو یارک اسٹیٹ آف ہیلتھ (NY State of Health) قابل اطلاق رفاقی دیوانی حقوق کے قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور اپنے صحت پروگراموں اور سرگرمیوں میں نسل، رنگ، قومی بنیاد، جنس، عمر یا معذوری کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا ہے۔

## خصوصی اندراج کی مدت کیا ہے؟

خصوصی اندراج کی مدت وہ وقت ہے جب کسی کی زندگی کا کوئی خاص موقع ہو (”کوالیفائنگ زندگی ایونٹ“ کہلاتا ہے) جو ان کے لیے درج ہونا ممکن بناتا ہے یا اوپن اندراج دورانیے سے باہر کوالیفائڈ صحت کی منصوبہ بندی کے ذریعے ان کی کوریج کو تبدیل کرتا ہے۔

## کون سے کوالیفائنگ زندگی کے واقعات کسی کو خصوصی اندراج کی مدت کے اہل بنا سکتے ہیں؟

کوالیفائنگ زندگی کے واقعات میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:

- صحت کی انشورینس کا ضائع ہونا (آپ نے اپنا پریمیم ادا نہیں کیا ہے کے علاوہ وجوہات کیلئے)
- نیو یارک کی ریاست میں مستقل منتقلی یا ریاست کے اندر ہی منتقلی جو آپ کے لیے نئے صحت کے پلان کو دستیاب بناتی ہے
- شادی یا گھریلو شراکت داری (گزشتہ 60 دنوں میں آپ کے پاس کوئی دوسرا کوریج رہا ہوگا)
- طلاق یا قانونی علیحدگی
- نگہداشت صحت کے پیشہ ور کی جانب سے تصدیق یافتہ زچگی
- بچہ پیدا ہونا یا گود لینا، یا بچے کو پرورش کی نگہداشت میں ڈالنا
- آپ کی کوالیفائڈ صحت کی منصوبہ بندی کوریج کے لیے ادائیگی کرنے میں مدد کے لیے اہل یا نا اہل بننا
- شہری، ملک کا باشندہ یا قانونی طور پر پیش ہونے والا فرد بننا

عموماً، آپ کو 60 دنوں کے اندر اندر کوالیفائنگ زندگی ایونٹ کے متعلق NY State of Health کو لاماً رپوٹ کرنی چاہیے۔ آپ کو شاید اپنے نئے صحت کے منصوبے کو یا نیو یارک اسٹیٹ آف ہیلتھ (NY State of Health) کو کوالیفائنگ زندگی ایونٹ کا ثبوت فراہم کرنا پڑے۔

## مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں کس پروگرام کے لیے اہل ہوں؟

آپ صحت کی کوریج کے لیے اہل ہیں یا نہیں اس کے متعلق جاننے کے لیے تین آسان طریقے ہیں:

- [nystateofhealth.ny.gov](http://nystateofhealth.ny.gov) پر آن لائن اپلائی کریں
- 1-855-355-5777 پر کسٹمر سروس سینٹر کو کال کریں
- معاونت کار سے ذاتی طور پر ملیں



آن لائن

[nystateofhealth.ny.gov](http://nystateofhealth.ny.gov)



بذریعہ فون

1-855-355-5777

TTY

1-800-662-1220



معاونت کار سے ذاتی طور پر ملیں

ہم اندراج کرنے کے عمل سے گزریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس پروگرام کے اہل ہیں، اور آپ کب درج ہو سکتے ہیں۔

آپ جو بھی زبان بولتے ہیں اس میں معاونت دستیاب ہے۔